



Press Release
April 24, 2017
For immediate release

SECP approves wheat futures contracts on PMEX

Islamabad, April 24: In an endeavor to augment the portfolio of agricultural commodities in domestic futures market, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has approved listing of wheat futures contracts on Pakistan Mercantile Exchange Limited (PMEX). Wheat futures contract is a pilot project, which will be carried out in district Sheikhpura, Muridke and adjoining areas.

The prominent stakeholders such as Pakistan Agricultural Coalition, Agriculture Department, Government of the Punjab, have also been involved in the consultation process for launch of this product to ensure its acceptability by the market participants. PMEX is a technology driven, electronic, transparent and regulated market and it will provide participants a great alternative to the traditional trading market that is burdened with middlemen and profiteers.

The salient features of the PMEX wheat futures contracts include compulsory delivery, swift payment to seller/farmers, quality certification of wheat and availability of multiple grades of wheat for trading.

The participation of investors at a national level market of PMEX will result in better price discovery and benefit the growers by fetching better price for their produce. The PMEX wheat futures contract has been modelled in such a way that it will provide the processors an opportunity to procure good quality wheat.

The addition of wheat futures contract will strengthen the agricultural product portfolio of PMEX that earlier included paddy rice and red chilli futures contracts.

This approval is a step towards developing an international level agri-product financing and trading ecosystem. The SECP has already approved collateral management framework in consultation with SBP, PBA, provincial governments and farmers' associations; notification for this has been approved by the federal cabinet and is in the process of issuance.

Under the framework a collateral management company would be established for overseeing agri-commodity warehouses, Central Depository Company of Pakistan Limited and number of banks have shown interest in investing in the collateral management company, which is a critical component for putting in place electronic warehousing receipts. Here it is pertinent to highlight that issuance and trading of electronic warehousing receipts is one of the main goals of national financial inclusion strategy.

ایس ای سی پی نے مرکٹائل ایکس چینج میں گندم کے فیوچر کنٹریکٹ کی منظوری دے دی

اسلام آباد (24 اپریل) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے پاکستان مرکٹائل ایکس چینج میں زرعی اجناس کا پورٹ فولیو بڑھاتے ہوئے، گندم کے فیوچر کنٹریکٹ میں لین دین کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ابتدائی طور پر گندم میں فیوچر کنٹریکٹ پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر صرف ضلع شیخوپورہ، مرید کے اور ارد گرد کے علاقوں میں ہی کئے جاسکیں گے۔

مرکٹائل ایکس چینج میں گندم کے لین دین متعارف کروانے کے لئے تمام نمایاں شیئرز ہولڈرز جن میں پاکستان ایگری کلچر کولیشن، حکومت پنجاب کا محکمہ زراعت اور دیگر شراکت داروں کے بھی مشاورت میں شامل کیا گیا تھا تا کہ اس جنس کو مارکیٹ میں کامیاب بنایا جاسکے۔ پاکستان مرکٹائل ایکس چینج ایک جدید ادارہ ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شراکت داروں کو ایک شفاف اور ریگولیٹڈ مارکیٹ کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جو کہ روایتی طریقوں اور کمیشن ایجنٹوں اور منافع خوروں سے پاک ہے۔

پاکستان مرکٹائل ایکس چینج کے گندم کے فیوچر کنٹریکٹ کے خصوصی عوامل جنس کی لازمی ڈیلیوری، تیز تر ادائیگی اور معیار کی سرٹیفیکیشن اور مختلف درجوں کی گندم کی دستیابی ہے۔ سرمایہ کاروں کی قومی سطح کی مرکٹائل ایکس چینج میں شمولیت سے کاشتکاروں اور سرمایہ کاروں، دونوں کو بہتر قیمت کا حصول ممکن ہو گا اور گندم کے لین دین کے لئے فیوچر کنٹریکٹ کے معاہدوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے جس سے کاشتکاروں کو اپنی فصل کا معیار بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔

گندم کے فیوچر کنٹریکٹ کے شال ہونے سے مرکٹائل ایکس چینج میں زرعی اجناس کا پورٹ فولیو بہتر ہوا ہے جو کہ ایک بین الاقوامی معیار کی زرعی مارکیٹ کی تشکیل کی جانب اہم قدم ہے۔ ایس ای سی پی پہلے ہی سیٹ بینک، اور پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن، صوبائی حکومتوں اور کاشتکار تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کے قیام کے لئے فریم ورک کی سفارش دے چکا ہے جس کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے اور جلد ہی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس فریم ورک کے تحت ایک کمپنی کی تشکیل دی جائے گی جو کہ ملک میں زرعی اجناس کے لئے ملک بھر میں گودام قائم کرے گی۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان، بہت سے بینکوں اور دیگر سرمایہ کاروں نے کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ کمپنی ملک میں الیکٹرک وئیر ہاؤسنگ کی بنیاد رکھے گی۔